



## سوال

(546) خسوف و کسوف سے متعلق مسائل

## جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

سماحہ الشیخ! ہم نے انبیا رات میں ایک خبر پڑھی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ عنقریب غروب آفتاب کے تھوڑی دیر بعد چاند کو مکمل طور پر گرہن لگے گا اور اس سے تین دن پہلے سورج کو بھی گرہن لگے گا اس مقالہ میں مضمون نگار نے اسباب خسوف اور اس کی ابتداء و انتہا کے بارے میں نہایت شرح و بسط سے لکھا ہے جس سے درج حقائق کے بعد زہن میں کوئی سوالات پیدا ہوتے ہیں۔

- 1- سورج اور چاند کو گرہن لگنا ایک طبعی بات ہے کیونکہ فلکی رصد گاہوں کے ماہرین اس کے وقوع پذیر ہونے سے بھی کئی دن پہلے بتا دیتے ہیں۔ اور یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ کس وقت گرہن شروع ہو کر کس وقت تک رہے گا اور نہایت تحقیق و تدقیق کے ساتھ یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ سورج یا چاند کا کتنا حصہ گرہن کی زد میں آئے گا؟
- 2- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا ہے جیسا کہ صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ہم حالت خسوف میں نماز پڑھیں اور فرمایا کہ اس حالت میں پڑھو حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ گرہن کو صاف کر دے۔
- 3- صحیح بخاری میں حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ خسوف کے وقت ہمیں غلاموں کو آزاد کرنے کا حکم دیا جاتا تھا۔
- 4- "فتح الباری" میں حدیث ہے کہ "سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔" تو سوال یہ ہے کہ سورج اور چاند گرہن سے لوگ کیوں ڈریں کیونکہ یہ تو ایک طبعی چیز ہے۔ جو رونما ہونے سے پہلے بھی معلوم کی جاسکتی ہے؟

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلوة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ سورج اور چاند گرہن اس لئے لگتا ہے۔ کہ اس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈرانا چاہتے ہیں اور یہ ترغیب دینا چاہتے ہیں کہ اس کے بندے ان نشانوں کو دیکھ کر اس سے ڈریں اور اس کے زکوٰۃ کی طرف لپکیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ خبر دی ہے کہ سورج اور چاند کو گرہن کسی کی موت و حیات کی وجہ سے نہیں لگتا بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں۔ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

«اذارہتم الخسوف فافزعوا لی ذکر اللہ و دعائہ» (صحیح بخاری)

